



سوال

شاوڑ کے نیچے بھی غسل درست ہے

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

میں چاہتا ہوں کہ تفصیل کے ساتھ اور آسان انداز میں اسل جنابت کا طریقہ معلوم کروں کیونکہ اس سلسلہ میں میں نے مختلف طریقوں کے بارے میں سن رکھا ہے لہذا امید ہے کہ آپ صحیح طریقہ کی وضاحت فرمائیں گے نیز یہ فرمائیے کیا شاوڑ کے نیچے غسل جائز ہے یا نہیں؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

غسل کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی غسل کی نیت کرے بسم اللہ پڑھے دونوں ہاتھوں کو تین بار دھوے پھر شرم گاہ کو اور جسم پر جو مٹی کے اثرات وغیرہ ہیں انہیں دھوئے پھر مکمل وضوء کرے پھر غسل شروع کرے اور سر کو تین بار دھوئے اور بالوں کی جڑوں کو خوب مبالغہ کے ساتھ دھوئے پھر باقی جسم کو اس طرح غسل دے کہ دائیں طرف سے پہلے شروع کرے اور پھر بائیں طرف کو دھوئے اور خوب مل مل کر دھوئے اور مقدور بھر کوشش کر کے جہاں جہاں جسم تک ہاتھ پہنچ سکتا ہو ہاتھ سے جسم کو ملے۔ شاوڑ کے نیچے بھی غسل جائز ہے اور اگر سارے جسم پر ایک ہی بار پانی بہا دیا جائے تو یہ غسل بھی درست ہوگا۔

حدا ما عندی واللہ اعلم بالصواب

فتاویٰ اسلامیہ

ج 1 ص 296

محدث فتویٰ